

## نقطہ

مکان ولا مکان کیا ہیں؟

زمان ولا زمان کیا ہیں؟

حدود آگہی کیا ہیں؟

شعورِ زندگی کیا ہے؟

حوادث کے بیان سے جانے کی جستجو ناکام رہتی ہے

کسی تمثیل سے بھی یہ معنے حل نہیں ہوتے

جگہ اور وقت میں تفریق ہے یا یہ ہماری آنکھ کا دھوکا ہے

جو افکار کو مدد و درکھتا ہے؟

حقیقت کو سمجھنے کے طریقے میں

کوئی ایسا خلا ہے جو ہماری جستجو بے سود رکھتا ہے؟

اگرچہ فلسفے میں ان مسائل کے کئی حل ہیں

اگرچہ تجربات تھوڑی سُن گُن دے رہے ہیں اب

مگر کیا یہ حادث کا بیان ہی ہے؟

اضافت کے عمومی یا خصوصی صابطوں سے ملنے والے  
کچھ مکانی اور زمانی نقطہ ہائے آگھی کا اک نشان ہی ہے؟  
یہ ہم سے دور بس افلاک میں گم کہکشاوں کی کہانی ہے؟  
کہو کیا نفسِ انسانی نے آفاقی مسائل کو  
ہمیشہ سے کہیں اندر، بہت اندر نہیں پر کھا؟  
نفوسِ نسلِ انسانی نے باہر کے کئی عقدے  
فقط اندر کے سفروں سے نہیں کھولے؟

سنو، یہ لامکاں اور لازماں آفاق سے بڑھ کر  
ہمارے اپنے اندر کی کہانی ہے  
جہاں پر لامکاں اور لازماں ملتے ہیں، وہ نقطہ  
کہ نقطہ؛ بے مکان و بے زماں ہوتا ہے ویسے بھی  
حدودِ آگھی کا ہے  
شعورِ زندگی کا ہے  
جو اس نقطے پر آجائے اسے محسوس ہوتا ہے

اسے معلوم ہوتا ہے  
مکال بس ایک حد ہے  
زندگی کا امتحان ترتیب دینے کے لیے تخلیق کردہ ہے  
زمال بس ایک حد ہے  
آدمی کا امتحان ترتیب دینے کے لیے تخلیق کردہ ہے

جو اس نقطے پر آجائے  
اسے معلوم ہوتا ہے  
حقیقت کا نشان کیا ہے  
قلوبِ نفسِ انسانی کا اصلی امتحان کیا ہے

اسے محسوس ہوتا ہے  
زمانی کچھ نہیں ہوتا  
مکانی کچھ نہیں ہوتا  
جگہ اور وقت اک ہی چیز کے رُخ ہیں  
حقیقت ہی کے پرتو ہیں

بیدو بعد یہں جو منقسم ہوتے ہوئے بھی  
مرکنز ہیں ایک نقطے پر

جو اس نقطے پر آجائے  
سمجھ جاتا ہے بالآخر  
خدا جو لامکانی ہے  
خدا جو لازمانی ہے  
وہ کیسے قلبِ مومن میں سما سکتا ہے  
کیسے آدمی کا ہاتھ رب کا ہاتھ بنتا ہے  
کہ کیسے آدمی کی آنکھ رب کی آنکھ بنتی ہے  
کہ کیسے لامکاں اور لازماں ملتے ہیں نقطے پر  
حدود قلب میں یک جان ہوتے ہیں

جو اس نقطے پر آجائیں  
تو کس رفتہ پر پھر انسان ہوتے ہیں!